



5 جنوری 2023

محترم والد/والدہ/سرپرست:

آپ اپنے بچے (بچوں) کی تعلیم میں جو سرمایہ کاری کرتے ہیں ہم اس کو سراہتے ہیں اور وفاقی طور پر مطلوبہ جائزوں، بالخصوص ELLs کے لئے ACCESS، کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ وفاقی قانون Illinois State Board of Education (ریاست الینوائے تعلیمی بورڈ) سے ریاست میں چارٹر اسکولوں سمیت، پبلک اسکولوں میں داخل تمام ان طلباء کے جائزوں کے انعقاد کا مطالبہ کرنا ہے جن کی شناخت انگریزی متعلمین (ELs) کے طور پر ہوئی ہے۔

ACCESS ٹیسٹ ریاست الینوائے میں تمام K-12 انگریزی سیکھنے والے طالب علموں (ELs) کا سالانہ جائزہ ہے۔ ACCESS کے اسکورز طالب علم کی انگریزی زبان میں کارکردگی اور مہارت کو جانچنے اور اس کے علاوہ اگلے تعلیمی سال کے EL پروگرام میں ان کے مقام کا تعین کرنے میں مدد فراہم کرنے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ، اس ٹیسٹ کے نتائج کو آپ کے ہائی اسکول کے طالب علم (طالب علموں) کی انگریزی زبان میں مہارت کے تقاضے کے تحت دو زبانوں میں خواندگی کی سیل کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی قانون کی جانب سے آپ کے کثیر لسانی بچے (بچوں) کو 11 جنوری سے 28 فروری 2023 تک ٹیسٹنگ کی مدت کے دوران ELLs کے لئے ACCESS کا جائزہ انجام دینا مطلوب ہے۔

ہم نے ڈسٹرکٹس کو تجویز دی ہے کہ [الینوائے WIDA ویب پیج](#) سے رجوع کریں، بالخصوص ACCESS آن لائن یا پیپر کے انعقاد کی چیک لسٹس، اور "ACCESS برائے ELLs ڈسٹرکٹ اور سکول کی ہم آہنگی کے کتابچہ" (ACCESS for ELLs District and School Coordination Manual) سے رجوع کریں، جو کہ جانچ کے عمل کے سب کے لئے مساوی، قابل رسائی، اور محفوظ ہونے کا اطمینان کرنے کے لئے معلومات فراہم کرتا ہے۔

آنے والے ہفتوں میں آپ کے بچے (بچوں) کا اسکول یا ڈسٹرکٹ آپ کے لئے ٹیسٹ کے انعقاد کے سلسلے میں اپنے منصوبے اور پروٹوکولز پر آپ سے بات چیت کرے گا۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہر طالب علم/طالبہ جانچ میں اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق کارکردگی کا مظاہرہ کرے، تاکہ آپ کا ڈسٹرکٹ 2023-24 کے تعلیمی سال میں ان کی مناسب اور موثر طور پر خدمت کر سکے۔

اپنے کثیر اللسان بچے (بچوں) کو بہترین مواقع فراہم کرنے کے لئے آپ کے تعاون اور معاونت پر آپ کا شکریہ!

آپ کا مخلص،

سین کلینٹن (Sean Clayton)، جائزے کا ڈائریکٹر (Director of Assessment)
جواین کلانیڈ (Joanne Clyde)، ڈائریکٹر کثیر اللسانیات (Director of Multilingual)